

﴿4﴾ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شروع سے ختم تک حاضری دینی

ہے اور اجتماع کے آخر میں خود آگے بڑھ کر نئی اسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش کرنی ہے۔

﴿5﴾ 63 مدنی انعامات کا سالہ روزانہ "فکرِ مدینہ" کرتے ہوئے پڑھ کر کے ہر ماہ اپنی ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروانا ہے۔

﴿6﴾ روزانہ مدنی مذاکرہ یا "سنتوں بھرا بیان سننا" ہے۔ میں بھی ان مدنی کاموں پر عمل کی نیت کرتی ہوں آپ بھی نیت فرمائیں۔

کہیے! **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** (مدنی مذاکرہ نمبر 66 سے حسب ترتیب کے ساتھ)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

## 6 مدنی اصول

اپنی نیت کی اصلاح کے ساتھ تین بار سب مل کر دھرائیں

”مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔“ ان شاء اللہ عزوجل

اپنی اصلاح کی کوشش کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے اپنے گھر کے محارم اور بچوں کے ابو کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان دونوں کاموں کی عادی بننے کے لئے مجھے اپنی ذات پر یہ چھ 6

**مدنی اصول نافذ کرنے ہیں:**

﴿1﴾ پنج وقتہ نماز، فرائض و واجبات کے ساتھ پابندی سے ادا کرنی ہے۔

﴿2﴾ روزانہ کم از کم ۲ گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کرنے ہیں۔

﴿3﴾ ہفتے میں ایک روز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں

شرکت کرنی ہے۔